

# تفہیم القرآن

القارعہ

(۱۰۱)

## القارعة

**نام** پہلے لفظ **الْقَارِعَةُ** کو اس کا نام فرار دیا گیا ہے۔ یہ صرف نام ہی نہیں ہے بلکہ اس کے مضمون کا عنوان بھی ہے، کیونکہ اس میں سارا ذکر قیامت ہی کا ہے۔

**زمانہ نزول** اس کے لئے ہونے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، بلکہ اس کے مضمون سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ بھی مکمل عظیم کے ابتدائی دور کی نازل شدہ سورتوں میں سے ہے۔

**موضوع اور مضمون** اس کا موضوع ہے قیامت اور آخرت۔ سب سے پہلے لوگوں کو یہ کہہ کر چونکا گیا ہے کہ عظیم حادثہ! کیا ہے وہ عظیم حادثہ؟ تم کیا جانو کہ وہ عظیم حادثہ کیا ہے؟ اس طرح سامعین کو کسی ہولناک واقعے کے پیش آنے کی خبر سننے کے لیے تیار کرنے کے بعد و فقروں میں ان کے سامنے قیامت کا نقش پیش کر دیا گیا ہے کہ اُس روز لوگ گھبراہٹ کے عالم میں اس طرح ہر طرف بھاگے بھریں گے جیسے روشنی پر آنے والے پروانے بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، اور پہاڑوں کا حال یہ ہو گا کہ وہ اپنی جگہ سے اکھر جائیں گے، ان کی بندش ختم ہو جائے گی اور وہ دُھنکے ہوئے اُون کی طرح ہو کر رہ جائیں گے۔ پھر بتایا گیا ہے کہ آخرت میں جب لوگوں کا حساب کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی عدالت قائم ہو گی تو اُس میں فیصلہ اس بنیاد پر ہو گا کہ کس شخص کے نیک اعمال برے اعمال سے زیادہ وزنی ہیں، اور کس کے نیک اعمال کا وزن اس کے بُرے اعمال کی نسبت ہلکا ہے۔ پہلی قسم کے لوگوں کو وہ عیش نصیب ہو گا جس سے وہ خوش ہو جائیں گے، اور دوسری قسم کے لوگوں کو اُس گھری کھانی میں پھینک دیا جائے گا جو آگ سے بھری ہوئی ہو گی۔

۱  
رسکو عاتھا

## سُورَةُ الْقَارِعَةِ مَكَّيَّةٌ

۱۱  
اباتھا

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْقَارِعَةُ لَا مَا لِقَارِعَةٍ ۚ وَمَا آدَلْكَ مَا لِقَارِعَةٍ ۖ يَوْمَ  
 يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمُبْشُوتِ ۖ وَتَكُونُ الْجَنَّاْلُ كَالْعِهْنِ  
 الْمَنْفُوشِ ۖ فَآمَّا مَنْ شَقَّلَتْ مَوَازِينُهُ ۖ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ  
 سَرَاضِيَّةٍ ۖ وَآمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ ۖ فَأُمَّهَ هَاوِيَّةٍ ۖ  
 وَمَا آدَلْكَ مَاهِيَّةٍ ۖ نَارٌ حَامِيَّةٌ ۖ



عظیم حادثہ! کیا ہے وہ عظیم حادثہ؟ تم کیا جانو کہ وہ عظیم حادثہ کیا ہے؟ وہ دن جب لوگ  
 بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح اور پہاڑ رنگ برنگ کے دھنکے ہوئے اون کی طرح ہوں گے۔  
 پھر جس کے پڑے بھاری ہوں گے وہ دل پسند عیش میں ہو گا، اور جس کے پڑے ہلکے ہوں  
 گے اس کی جائے قرار گھری کھائی ہو گی۔ اور تھیں کیا خبر کہ وہ کیا چیز ہے؟ بھڑکتی ہوئی آگ۔

۱ - اصل میں لفظ قاریعہ استعمال ہوا ہے جس کا لفظی ترجمہ ہے: ”ٹھونکنے والی“۔ قرع کے معنی کسی چیز کو کسی  
 چیز پر زور سے مارنے کے ہیں جس سے سخت آواز نکلے۔ اس لغوی معنی کی مناسبت سے قاریعہ کا لفظ ہونا ک حادثے اور بڑی  
 بھاری آفت کے لیے بولا جاتا ہے۔ مثلاً عرب کہتے ہیں: قَرَعَتْهُمُ الْقَارِعَةُ، یعنی فلاں قبلیے یا قوم کے لوگوں پر سخت آفت  
 آگئی ہے۔ قرآن مجید میں بھی ایک جگہ یہ لفظ کسی قوم پر بڑی مصیبت نازل ہونے کے لیے استعمال ہوا ہے۔ سورہ رعد  
 میں ہے: وَلَا يَرَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَتُصِيبُهُمْ بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ ”جن لوگوں نے کفر کیا ہے ان پر ان کے کرتوں کی وجہ  
 سے کوئی نہ کوئی آفت نازل ہوتی رہتی ہے۔“ (آیت ۳۱) لیکن یہاں القاریعہ کا لفظ قیامت کے لیے استعمال کیا گیا ہے، اور سورہ  
 الحلقہ میں بھی قیامت کو اسی نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ (آیت ۲) اس مقام پر یہ بات نگاہ میں رہنی چاہیے کہ یہاں قیامت  
 کے پہلے مرحلے سے لے کر عذاب و ثواب کے آخری مرحلے تک پورے عالم آخرت کا یک جاذب ہو رہا ہے۔

۲ - یہاں تک قیامت کے پہلے مرحلے کا ذکر ہے۔ یعنی جب وہ حادثہ عظیم برپا ہو گا جس کے نتیجے میں دنیا کا سارا

نظامِ دراهم براہم ہو جائے گا، اس وقت لوگ گھبراہٹ کی حالت میں اس طرح بھاگے بھاگے پھر میں گے جیسے روشنی پر آنے والے پروانے ہر طرف پرانگہ و منتشر ہوتے ہیں، اور پھاڑ رنگ برنگ کے دھنکے ہوئے اون کی طرح اُڑنے لگیں گے۔ رنگ برنگ کے اون سے پھاڑوں کو تشبیہ اس لیے دی گئی ہے کہ اُن کے رنگ مختلف ہوتے ہیں۔

۳۔ یہاں سے قیامت کے دوسرے مرحلے کا ذکر شروع ہوتا ہے، جب دوبارہ زندہ ہو کر لوگ اللہ تعالیٰ کی عدالت میں پیش ہوں گے۔

۴۔ اصل میں لفظ مَوازِين استعمال ہوا ہے جو مَوْزُون کی جمع بھی ہو سکتا ہے اور میزان کی جمع بھی۔ اگر اس کو مَوْزُون کی جمع قرار دیا جائے تو مَوازِین سے مراد وہ اعمال ہوں گے جن کا اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں کوئی وزن ہو، جو اس کے ہاں کسی قدر کے مستحق ہوں۔ اور اگر اسے میزان کی جمع قرار دیا جائے تو مَوازِین سے مراد ترازوں کے پلڑے ہوں گے۔ پہلی صورت میں مَوازِین کے بھاری اور ہلکے ہونے کا مطلب نیک اعمال کا بُرے اعمال کے مقابلے میں بھاری یا ہلکا ہونا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں صرف نیکیاں ہی وزنی اور قابل قدر ہیں۔ دوسری صورت میں مَوازِین کے بھاری ہونے کا مطلب اللہ جل شانہ کی میزانِ عدل میں نیکیوں کے پلڑے کا براستیوں کے پلڑے کی بہ نسبت زیادہ بھاری ہونا ہے، اور ان کے ہلکا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بھلاستیوں کا پلڑا براستیوں کے پلڑے کی بہ نسبت ہلکا ہو۔ اس کے علاوہ عربی زبان کے محاورے میں میزان کا لفظ وزن کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور اس معنی کے لحاظ سے وزن کے بھاری اور ہلکا ہونے سے مراد بھلاستیوں کا وزن بھاری یا ہلکا ہونا ہے۔ بہر حال مَوازِین کو خواہ مَوْزُون کے معنی میں لیا جائے، یا میزان کے معنی میں، یا وزن کے معنی میں، مَدعا ایک ہی رہتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عدالت میں فیصلہ اس بنیاد پر ہو گا کہ آدمی اعمال کی جو پونجی لے کر آیا ہے، وہ وزنی ہے، یا بے وزن، یا اس کی بھلاستیوں کا وزن اُس کی براستیوں کے وزن سے زیادہ ہے یا کم۔ یہ مضمون قرآن مجید میں متعدد مقامات پر آیا ہے، جن کو نگاہ میں رکھا جائے تو اس کا مطلب پوری طرح واضح ہو جاتا ہے۔ سورہ اعراف میں ہے ”اور وزن اُس روز حق ہو گا، پھر جن کے پلڑے بھاری ہوں گے وہی فلاح پائیں گے، اور جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے وہی اپنے آپ کو خسارے میں بنتا کرنے والے ہوں گے۔“ (آیات ۸-۹) سورہ کہف میں ارشاد ہوا: ”اے بنی اٰن لوگوں سے کہو: کیا ہم تمھیں بتائیں کہ اپنے اعمال میں سب سے زیادہ ناکام و نامراد لوگ کون ہیں؟ وہ کہ دنیا کی زندگی میں جن کی ساری سعی و جہد را ہر راست سے بھکلی رہی اور وہ سمجھتے رہے کہ وہ سب کچھ ٹھیک کر رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کو ماننے سے انکار کیا اور اس کے حضور پیشی کا یقین نہ کیا۔ اس لیے ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے، قیامت کے روز ہم انھیں کوئی وزن نہ دیں گے۔“ (آیات ۱۰۲-۱۰۵) سورہ انبیاء میں فرمایا: ”قیامت کے روز ہم ٹھیک ٹھیک تولنے والے ترازو رکھ دیں گے، پھر کسی شخص پر ذرہ برابر ظلم نہ ہو گا۔ جس کارائی کے دانے برابر بھی کچھ کیا دھرا ہو گا وہ ہم لے آئیں گے، اور حساب لگانے کے لیے ہم کافی ہیں۔“ (آیت ۳۷) ان آیات سے معلوم ہوا کہ کفر اور حق سے انکار بجائے خود اتنی بڑی بُرائی ہے کہ وہ براستیوں کے پلڑے کو لازماً جھکا دے گی، اور کافر کی کوئی نیکی ایسی نہ ہو گی کہ بھلاستیوں کے پلڑے میں اُس کا کوئی وزن ہو جس سے اُس کی نیکی کا پلڑا جھک سکے۔ البتہ مومن کے پلڑے

میں ایمان کا وزن بھی ہو گا اور اس کے ساتھ ان نیکیوں کا وزن بھی جو اس نے دنیا میں کیں۔ دوسری طرف اُس کی جو بدی بھی ہوگی، وہ بدی کے پلڑے میں رکھ دی جائے گی۔ پھر دیکھا جائے گا کہ آیا نیکی کا پلڑا جھکا ہوا ہے یا بدی کا۔

۵ - اصل الفاظ ہیں: اَمْهَةٌ هَاوِيَّةٌ، ”اُس کی ماں ہاویہ ہوگی“۔ ہاویہ ہوئی سے ہے، جس کے معنی اونچی جگہ سے پنجی جگہ گرنے کے ہیں اور ہاویہ اُس گھرے گڑھے کے لیے بولا جاتا ہے جس میں کوئی چیز گرے۔ جہنم کو ہاویہ کے نام سے اس لیے موسوم کیا گیا ہے کہ وہ بہت عمیق ہوگی اور اہل جہنم اس میں اُپر سے پھینکنے جائیں گے۔ رہایہ ارشاد کے اس کی ماں جہنم ہوگی، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح ماں کی گود بچے کاٹھکانا ہوتی ہے، اسی طرح آخرت میں اہل جہنم کے لیے جہنم کے سوا کوئی ٹھکانا نہ ہوگا۔

۶ - یعنی وہ محض ایک گھری کھانی ہی نہ ہوگی بلکہ بھڑکتی ہوئی آگ سے بھری ہوئی ہوگی۔